

Total No. of Questions - 32

Total No. of Printed Pages - 4

Regd.

No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Part - III

COMMERCE, Paper-II

(Urdu Version)

Time : 3 Hours]

[Max. Marks : 100

PART-I (Marks - 50)

SECTION - A

2 × 10 = 20

ذیل کے کوئی دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر جواب 40 سطور سے زائد نہ ہو:

1. ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ کے فائدوں پر بحث کیجئے۔
2. اشاک آپکچنگ کی تعریف اور اس کے افعال کو واضح کیجئے۔
3. CPA 1986 کے مطابق ایک صارف کے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کیجئے۔

SECTION - B

4 × 5 = 20

ذیل کے کوئی چار (4) سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر جواب 20 سطور سے زائد نہ ہو:

4. کاراندازوں کے کوئی پانچ افعال بیان کیجئے۔
5. معاشی ترقی میں کاراندازیت کے رول کو واضح کیجئے۔
6. بین الاقوامی تجارت کیا ہے؟ مختلف قسم کے بین الاقوامی تجارت کو بیان کیجئے۔
7. SEZ کے مقاصد کو واضح کیجئے۔
8. الیکٹرانک بینکنگ کے پہلو کیا ہیں؟
9. ابتدائی اور ثانوی بازار کے درمیان فرق کیجئے۔

SECTION - C

$$5 \times 2 = 10$$

ذیل کے کوئی پانچ (5) سوالات کے جوابات لکھئے۔ ہر جواب 5 سطور سے زائد نہ ہو:

10. کارانداز کے کوئی دو اقسام لکھئے۔
11. کارانداز کی کوئی ایک خصوصیات لکھئے۔
12. Retailer کون ہے؟
13. دہرا بیمہ (Double Insurance)
14. Recurring Deposit
15. SENSEX
16. زر کا بازار
17. ڈسٹرکٹ فورم

PART-II (Marks - 50)

SECTION - D

$$1 \times 20 = 20$$

ذیل کے سوال کا جواب لکھئے:

18. Kumar اور Suresh شرکاء ہیں، جو شراکت داری میں 2:3 کیلئے شریک ہیں۔ 31 مارچ، 2015 کو موجود ان کا گوشوارہ باقیات اس طرح تھا:

ذمہ داریاں	رقم (₹)	اثاثے	رقم (₹)
لیمن دار	28,000	ہاتھ میں نقدی	3,000
سرمایہ:		بینک میں نقدی	23,000
Kumar 70,000		دین دار	19,000
Suresh 70,000	1,40,000	عمارت	65,000
		فرنیچر	15,000
		مشینری	13,000
		ذخیرہ	30,000
	1,68,000		1,68,000

مندرجہ بالا ترنچ پر انہوں نے Deepak کو مستقبل کے نفع میں 1/3 حصہ دیتے ہوئے مندرجہ ذیل شرائط پر داخلہ دیا:

- (1) فرنیچر اور ذخیرہ پر 10% فرسودگی عائد کی جائے۔
 - (2) عمارت کی قدر میں 20,000 ₹ کا اضافہ کیا جائے۔
 - (3) دین داروں پر مشکوک دین داروں کیلئے 5% محفوظ فراہم کیا جائے۔
 - (4) Deepak کو 50,000 ₹ سرمایہ کے طور پر اور 30,000 ₹ ساکھ کے طور پر لانا ہوگا۔
- ضروری یہی کھاتے اور نئی فرم کا نیا گوشوارہ باقیات تیار کیجئے۔

SECTION - E

$$1 \times 10 = 10$$

ذیل کے کوئی ایک سوال کا جواب لکھئے :

19. Vijayawada کے Vijaya نے 20,000 ₹ کا مال دینے Bangalore کے کارندے Bhavani کو روانہ کیا۔ مرسل نے حمل و نقل کے لئے 1,000 ₹ اور بیمہ کے لئے 500 ₹ خرچ کئے۔ Bhavani نے 5,000 ₹ پیشگی طور پر روانہ کئے۔ دو مہینے (Two Months) بعد Vijaya نے مندرجہ ذیل اکاؤنٹس سیز حاصل کئے :

(1) 1/2 مال فروخت پر ₹ 24,000

(2) فروخت کے اخراجات ₹ 1,200

(3) فروخت پر کمیشن 10%

Vijaya کی کتابوں میں بھی کھاتے تیار کیجئے۔

20. ذیل میں ایک Amaravathi Town Club کا وصولی و ادائیگی کھاتہ دیا گیا ہے۔ ختم سال 31-03-2013 کیلئے آمدنی و خرچ کھاتہ بتائیے :

Dr.		وصولی و ادائیگی کھاتہ		Cr.	
وصولیاں	رقم ₹	ادائیگیاں	رقم ₹		
To بیلنس (01-04-2012)	5,750	By تنخواہیں	4,000		
" چنڈے	3,250	" کرایہ	750		
" سود	250	" اسٹیشنری	250		
" پرانا فرنیچر فروخت	400	" حکومتی بونڈس	3,000		
" داخلہ فیز	2,000	" Balance c/d	3,650		
(Entrance Fees)	.	31-03-2013			
	11,650		11,650		

مطابقتیں (Adjustments) :

- (a) پچھلے سال (Last year) کیلئے وصول طلب چنڈے 250 ₹۔
- (2) کرایہ پچھلے سال (Last year) کا جمع کو ہے 150 ₹۔
- (3) فرنیچر کتاب کی قدر فروخت (Book Value) 500 ₹۔
- (4) داخلہ فیز (Entrance Fees) سرمایہ ہو گئی۔

SECTION - F

$$2 \times 5 = 10$$

ذیل کے کوئی دو سوالات کے جوابات لکھئے :

21. یکم جنوری 2011 کو Sireesha Traders نے ایک پرانی مشین ₹ 72,000 میں خریدی اور اس کی درستی و تنصیب کیلئے ₹ 8,000 خرچ کئے۔ فرسودگی سالانہ 10% یکساں قسطوں کے طریقہ کے تحت عائد کی جاتی ہے۔ 30 جون 2013 کو مشین ₹ 50,000 میں فروخت کی گئی۔ مشینری کا کھاتہ یہ فرض کرتے ہوئے تیار کیجئے کہ ہر سال کھاتے 31 دسمبر کو بند کئے جاتے ہیں۔

22. یکم جون 2013 کو Satyam نے ₹ 9,000 کا مال Sivam کو فروخت کیا اور اس رقم کے لئے و ماہ کا ایک بل تیار کیا۔ Sivam نے اس بل کو قبول کر کے Satyam کو لوٹا دیا۔ 01-07-2013 کو Satyam نے اس بل کو اپنے کریڈیٹار Sundaram کی تائید میں تصدیق کر دیا۔ تاریخ وجوب کو بل کا نبھاؤ (آنر) ہو گیا۔ Satyam کی کتابوں میں جرنل اندراج لکھئے۔

23. سرمایہ کی درجہ بندی کو واضح کیجئے۔

24. ایک تاجر اپنی کتابیں اکھرے اندراج کے طریقہ سے رکھتا ہے۔ ذیل کی تفصیلات میں سے نفع معلوم کرو :

سرمایہ 31-03-2014	₹ 80,000
سرمایہ 01-04-2013	₹ 70,000
سال کے دوران متعارف سرمایہ	₹ 4,000
سال کے دوران ذاتی استعمال (Drawings)	₹ 3,000

SECTION - G

$$5 \times 2 = 10$$

ذیل کے کوئی پانچ سوالات کے جوابات لکھئے :

25. مہلت کے دن (Days of Grace)
26. فرسودگی واقع ہونے کی کوئی دو وجوہات
27. ڈیل کریڈر کمیشن
28. Legacy
29. X اور Y شرکاء ہیں، جو نفع و نقصان میں 1:2 کیلئے شریک ہیں۔ Z کو مستقبل کے نفع میں 1/4 حصہ دیتے ہوئے کاروبار میں داخلہ دینا طے کیا۔ نفع کی تقسیم کے نئے تناسب معلوم کرو۔
30. مساواتی حصص (Equity Share) کیا ہے؟
31. Ready to Use
32. اکھرے اندراج کا نظام کیا ہے؟